

## ترجمہ کے

ماہیرویانا ورومہ | (جلد اول) مترجمہ مولوی سید ہاشمی صاحب فرید آبادی تقطیع متوسط کتابت  
و طباعت بہتر صفات ۸۰۰ صفحات۔ قیمت مجلد للجہ وغیر مجلد ہے۔ شائع کردہ  
انجمن ترقی اردو (ہند) دہلی

پلوٹارک یونان کا پہلی صدی عیسوی کا مشہور مصنف ہے ان نے یونان اور روما کے  
ماہیروی کے حالات میں ایک ضخیم کتاب لکھی تھی جس کا اصل یونانی نسخہ ۱۵۰ء میں پہلی مرتبہ  
ائلی میں طبع ہوا۔ اور پھر صل نسخہ کی بار بار اشاعت کے علاوہ یورپ کی تقریباً ہر بڑی زبان میں  
اس کتاب کے تراجم شائع ہوئے۔ عرصہ ہوا اردو زبان کے مشہور مترجم اور کہنہ مشح صاحب فسلم  
مولوی سید ہاشمی صاحب فرید آبادی نے انجمن ترقی اردو کے لئے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا تھا  
اب انجمن نے تقریباً ایک ربع صدی کے بعد لاکھ مترجم سے نظر ثانی کرائے بہت کچھ اصلاح و ترمیم  
کے ساتھ اس کو زیادہ اہتمام سے شائع کیا ہے۔ زیر تبصرہ کتاب اس سلسلہ کی پہلی جلد ہے جس میں  
یونان و روما کی آٹھ بڑی شخصیتوں کا ذکر آگیا ہے۔ مصنف کا طریقہ عام طور پر یہ ہے کہ وہ پہلے  
یونان اور روما دونوں ملکوں کی ایک ایک بڑی شخصیت کا ذکر الگ الگ کرتا ہے۔ اور پھر  
دونوں میں مقابلہ و موازنہ کرتا ہے۔ پلوٹارک کا ہر بیان تاریخی اعتبار سے مستند ہے۔ تاہم اس  
میں شک نہیں کہ کتاب ہمایت دلچسپ اور بعض خاص اعتبارات سے بحق آموز بھی ہے۔  
ترجمہ کی دلکشی اور روانی کے لئے ہاشمی صاحب کا نام کافی ضمانت ہے۔ آپ نے اس میں  
ایک حدیت یہی کہ اشعار کا ترجمہ بھی اشعار میں کرتے چلے گئے ہیں۔ ہمیں انہیں ہے کہ انجمن

ملہ شروع میں ذاکر مولوی عبد الحق صاحب کا ایک مختصر مگر معین مقدمہ ہے جس سے کتاب کی اہمیت اور یونانی  
ادبیات میں اس کی ایک خاص و قوت و غلت پر رoshni پڑتی ہے۔